

**BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,
MULTAN**

OBJECTIVE KEY FOR INTER (PART I) Annual Examination, 2016.

Name of Subject: Health & Phy. Edu.
Group: New

Session: 2015-2017 & 2012-2014.
Group: Old

Q. Nos.	Paper Code 2421	Paper Code 2423	Paper Code 2425	Paper Code 2427
1.	D	A	D	B
2.	C	B	A	A
3.	C	A	C	B
4.	A	D	A, B, C, D	D
5.	B	D	B	C
6.	A	A	B	C
7.	D	C	A	A
8.	D	A, B, C, D	B	B
9.	A	B	D	A
10.	C	B	C	D
11.	A, B, D	A	C	D
12.	B	B	A	A
13.	B	D	B	
14.	A	C	A	A, B, C, D
15.	B	C	D	B
16.	D	B	D	B
17.	B	D	B	D
18.	D	B	D	B
19.	B	D	B	D
20.	/	/	/	/

For Boys only [16, 17]
For Girls only - [18, 19]

For Boys [16, 17]
For Girls [18, 19]

Q. Nos.	Paper Code 6421	Paper Code 6423	Paper Code 6425	Paper Code 6427
1.	D	D	D	C
2.	A	C	A	C
3.	B	C	C	A
4.	D	D	C	D
5.	C	A	C	C
6.	C	C	A	C
7.	D	C	D	D
8.	A	C	C	A
9.	C	A	C	B
10.	C	D	D	D
11.	C	C	A	C
12.	A	C	B	C
13.	D	D	D	D
14.	C	A	C	A
15.	C	B	C	C
16.	B	C	B	C
17.	C	B	C	B
18.	B	C	B	C
19.	C	B	C	B
20.	/	/	/	/

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کٹ کر بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ Bubbles بھرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوال پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) Physical Education is a compulsory part of:-
(A) Engineering انجینئرنگ کا (B) Medical میڈیکل کا (C) Computer کمپیوٹر کا (D) General Education عام تعلیم کا
- (2) Modern mechanical and scientific development has made a man:-
(A) Powerful طاقتور (B) Weak کمزور (C) Lazy سست (D) Active بے سست
- (3) Gymnastics creates in our body:-
(A) Illness بیماری (B) Laziness سستی (C) Flexibility لچک (D) Weakness کمزوری
- (4) Kinds of Recreational hobbies are:-
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- (5) Width of Volleyball Court is:-
(A) 7 m میٹر 7 (B) 9 m میٹر 9 (C) 11 m میٹر 11 (D) 18 m میٹر 18
- (6) Width of Volleyball Net is:-
(A) 1 m میٹر 1 (B) 1.22 m میٹر 1.22 (C) 1.50 m میٹر 1.50 (D) 2 m میٹر 2
- (7) Angle of throwing shot put sector is:-
(A) 15.50° (B) 30° (C) 32° (D) 34.92°
- (8) Length of Baton in 4 x 100 m Relay Race is:-
(A) 10 cm سینٹی میٹر 10 (B) 15 cm سینٹی میٹر 15 (C) 20 cm سینٹی میٹر 20 (D) 30 cm سینٹی میٹر 30
- (9) A group of same kind of cells is called:-
(A) Tissue بافت (B) Organ عضو (C) Vein ورید (D) Artery شریان
- (10) Methods of blood circulation in human body are:-
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- (11) ___ organs take part in Respiratory System.
(A) 2 (B) 5 (C) 9 (D) 11
- (12) Fracture of Bone is called:-
(A) Sprain ماریج (B) Fracture شکستگی (C) Pulled Muscle عضلاتی سمجھاؤ (D) Muscle Cramp عضلاتی تھکاو
- (13) There are totle ___ bones in human body.
(A) 200 (B) 206 (C) 208 (D) 212
- (14) Connecting place of two or more bones is called:-
(A) Joint جوڑ (B) Ligament بندھن (C) Tendon تاج (D) Tissue بافت
- (15) Cholera spreads through a germ:-
(A) Bacteria بیکٹیریا (B) Vibrio ویریو (C) Tubercie bacillus ٹیوبریسل بیسیلیس (D) Mosquito مچھر
- (16) Penalty kick is applied in Football from distance of ___ metres.
(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 11
- (17) Length of Arena in Hop, step and jump is:-
(A) 6 m میٹر 6 (B) 9 m میٹر 9 (C) 11 m میٹر 11 (D) 13 m میٹر 13
- (16) Netball Court consists of equal parts:-
(A) 2 (B) 5 (C) 4 (D) 3
- (17) Weight of Discus for women is:-
(A) ½ kg کلوگرام ½ (B) 1 kg کلوگرام 1 (C) 1½ kg کلوگرام 1½ (D) 2 kg کلوگرام 2

(FOR BOYS ONLY)

(صرف طلبہ کے لئے)

(FOR GIRLS ONLY)

(صرف طالبات کے لئے)

انٹرمیڈیٹ امتحان پارٹ - I (کلاس گیارہویں)

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION PAPER-I (SESSION 2015-2017)

صحت و تعلیم جسمانی پرچہ - پہلا

TIME ALLOWED: 2.40 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 2.40 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 68

کل نمبر = 68

نوٹ - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔
and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 2- کوئی سے آٹھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Write any two Hadith about the importance of Physical Education. (i) تعلیم جسمانی کی اہمیت کے بارے میں دو احادیث تحریر کیجیے۔
- (ii) Briefly write the relation between Islam and Physical Education. (ii) تعلیم جسمانی اور اسلام کا آپس میں تعلق مختصر تحریر کیجیے۔
- (iii) Define Physical Education. (iii) تعلیم جسمانی کی تعریف کیجیے۔
- (iv) Briefly write down the effects of deficiency of Physical Labour. (iv) جسمانی مشقت میں کمی کے اثرات مختصر تحریر کیجیے۔
- (v) Write briefly four objectives of Physical Education. (v) تعلیم جسمانی کے چار مقاصد مختصر تحریر کیجیے۔
- (vi) What is meant by Agility? (vi) مہجرتی سے کیا مراد ہے؟
- (vii) What is meant by Balance? (vii) توازن سے کیا مراد ہے؟
- (viii) Define Educational Gymnastics. (viii) تعلیمی جمناستک کی تعریف کیجیے۔
- (ix) Write two advantages of Recreation. (ix) تفریح کے دو فائدے تحریر کیجیے۔
- (x) Why is Recreation essential for Human Being? (x) تفریح انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟
- (xi) Write the modern definition of Recreation. (xi) تفریح کی جدید تعریف کیجیے۔
- (xii) Describe briefly the effects of recreation on the personality. (xii) انسانی شخصیت پر تفریح کے اثرات مختصر بیان کیجیے۔

3. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 3- کوئی سے آٹھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Write the names of "Services" in the game of Volleyball. (i) والی بال کھیل میں "سروسز" کے نام تحریر کیجیے۔
- (ii) Write length and width measurement of Volleyball Court. (ii) والی بال کورٹ کی لمبائی اور چوڑائی کی پیمائش تحریر کیجیے۔
- (iii) What are the duties of first referee in Volleyball game? write briefly. (iii) فرسٹ ریفری کے فرائض والی بال کھیل میں کیا ہوتے ہیں؟ مختصر نوٹ تحریر کیجیے۔
- (iv) Write down two fouls in Volleyball Game. (iv) والی بال کھیل میں دو فوٹاؤں تحریر کیجیے۔
- (v) Write two rules of Putting the Shot. (v) گولہ پھینکنے کے دو قواعد تحریر کیجیے۔
- (vi) Write technique of Putting the Shot. (vi) گولہ پھینکنے کی تکنیک تحریر کیجیے۔
- (vii) Write a short note on 4 x 100 m Relay Race. (vii) ڈاک دوڑ پر مختصر نوٹ تحریر کیجیے۔
- (viii) Write the number of Athletes in 4 x 100 m race. (viii) ڈاک دوڑ میں ایتھلیٹس کی تعداد لکھیے۔

(ورق الٹے)

(FOR BOYS ONLY)

- (ix) What is meant by Kickoff?
 (x) Describe two fouls in football game.
 (xi) Describe briefly the Landing Area in Triple Jump.
 (xii) Write down short history of Triple Jump.

(FOR GIRLS ONLY)

- (ix) Write a short note on "Shooting Circle" in Netball.
 (x) Write down the short measurement of Netball Court.
 (xi) Write two fouls of Throwing Discus.
 (xii) Write down the technique of Throwing the Discus.

4. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

- (i) What is the major objective of Health Education.
 (ii) What is the relationship between Health Education and Physical Education?
 (iii) Define Tissue.
 (iv) How many systems are working in human body?
 (v) Define the Five Senses.
 (vi) Write a short note on the structure of Heart.
 (vii) What does the Good Posture Reflects?
 (viii) What is meant by First Aid?
 (ix) What is meant by Infectious Diseases?

(صرف طلباء کے لئے)

- (ix) ایک آف سے کیا مراد ہے؟
 (x) فٹ بال کھیل میں دو فاولز بیان کیجیے۔
 (xi) سر جسٹ کا لینڈنگ ایریا مختصر بیان کیجیے۔
 (xii) سر جسٹ کی مختصر تاریخ تحریر کیجیے۔

(صرف طالبات کے لئے)

- (ix) نیٹ بال کے شوٹنگ سرکل پر مختصر نوٹ تحریر کیجیے۔
 (x) نیٹ بال کورٹ کی مختصر پیمائش تحریر کیجیے۔
 (xi) ڈسکس پھینکنے کے دو فاولز تحریر کیجیے۔
 (xii) تھالی پھینکنے کا طریقہ لکھیے۔

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) علمِ اِصْحٰت کا اہم ترین مقصد کیا ہے؟
 (ii) علمِ اِصْحٰت اور تعلیمِ جسمانی کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟
 (iii) بافت کسے کہتے ہیں؟
 (iv) انسانی جسم میں کتنے نظام کام کرتے ہیں؟
 (v) حواسِ شمس سے کیا مراد ہے؟
 (vi) دل کی ساخت پر مختصر نوٹ لکھیے۔
 (vii) درست قامت کس چیز کی آئینہ دار ہوتی ہے؟
 (viii) ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟
 (ix) متعدی امراض سے کیا مراد ہے؟

SECTION-II حصہ دوم**NOTE: - Attempt any three questions.**

24 = 8 x 3

5. Describe aims and objectives of Physical Education in detail. -5
 6. Write a note with the reference to Volleyball Game:-
 Posts (iv) Antenna (iii) Rotation (ii) The Toss (i)
 7. Write down the important rules for 100 x 4 m Relay Race. -7
 8. Define Respiratory System. -8
 Write the organs that take part in respiratory system in detail.
 9. Write notes on any two:-
 Causes of spreading Cholera (ii) Causes of Flat-foot (i)

انٹرمیڈیٹ امتحان پارٹ - I (کلاس گیارہویں)

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION PAPER-I (SESSION 2012-2014)

صحت و تعلیم جسمانی پرچہ - پہلا

TIME ALLOWED: 3.10 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 3.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 83

کل نمبر = 83

نوٹ۔ جوابی کا پی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔
NOTE: - Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 2۔ کوئی سے آٹھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Define Physical Education by J.B. Nash. (i) ہے۔ بی نیش کی تعلیم جسمانی کی تعریف بیان کیجیے۔
- (ii) What is meant by Recreation? (ii) تفریح سے کیا مراد ہے؟
- (iii) How Physical Education develops the Physical Ability? (iii) جسمانی تعلیم سے جسمانی اہلیت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟
- (iv) Define Educational Gymnastics. (iv) تعلیمی جمناسٹک کی تعریف تحریر کیجیے۔
- (v) Which building was introduced by the Greeks for exercise? (v) یونانیوں نے ورزش کے لیے کون سی عمارت متعارف کروائی؟
- (vi) Write down four exercises of Legs. (vi) ٹانگوں کی چار ورزشیں تحریر کیجیے۔
- (vii) Does Physical Education save from diseases? (vii) کیا جسمانی تعلیم بیماریوں سے بچاتی ہے؟
- (viii) What is meant by Warming-up exercises? (viii) جسم کو گرم کرنے والی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟
- (ix) Write down the names of four objectives of Recreation. (ix) تفریح کے چار مقاصد کے نام تحریر کیجیے۔
- (x) Describe the opinion of Charles Bright Bill for Leisure. (x) چارلس برائٹ بل کی فرصت کے بارے میں رائے بیان کیجیے۔
- (xi) On which festivals social activities are based? (xi) سماجی سرگرمیاں کن چہواروں پر مشتمل ہوتی ہیں؟
- (xii) How can recreation activities be made useful and effective? (xii) تفریح کو با مقصد اور موثر کیسے بنایا جاسکتا ہے؟

3. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 3۔ کوئی سے آٹھ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) What is Attack Line in Volleyball? Explain briefly. (i) دالی بال میں ایک لائن کیا ہوتی ہے؟ مختصراً لکھیں۔
- (ii) Write about Service Zone in Volleyball. (ii) دالی بال میں سروں کے علاقہ کے بارے میں لکھیں۔
- (iii) Explain Side Band in Volleyball. (iii) دالی بال میں سائیڈ بینڈ کی وضاحت کیجیے۔
- (iv) Write two duties of Coach in Volleyball. (iv) دالی بال میں کوچ کے دو فرائض لکھیں۔
- (v) Explain Stop Board in Shot Put. (v) گولڈ بازی میں سٹاپ بورڈ کی وضاحت کیجیے۔
- (vi) Write brief introduction of Relay Race. (vi) ڈاک دوڑ کیا ہوتی ہے؟ مختصراً تعارف لکھیں۔
- (vii) Write a brief introduction of Baton. (vii) نیشن کا مختصراً تعارف لکھیں۔
- (viii) Write length and width of Check Mark in Relay Race. (viii) ڈاک دوڑ میں پیک مارک کی لمبائی اور چوڑائی لکھیں۔

(FOR BOYS ONLY)

(صرف طلباء کے لئے)

- (ix) Explain Flag Posts in Football. (ix) فٹ بال میں جھنڈوں کے ڈنڈوں کی وضاحت کیجیے۔
- (x) Write briefly on Corner Arc in Football. (x) فٹ بال میں کارنر آرک کیا ہوتا ہے؟ مختصراً لکھیں۔
- (xi) Explain the Triple Jump briefly. (xi) سرجسٹ کی مختصراً وضاحت کیجیے۔
- (xii) Write down two fouls in Triple Jump. (xii) سرجسٹ کے دو فائل لکھیں۔

(ورق اٹھائے)

(FOR GIRLS ONLY)

(صرف طالبات کے لئے)

- (ix) Explain Shooting Circle in Netball. (ix) نیٹ بال میں شوٹنگ سرکل کی وضاحت کیجیے۔
- (x) Write short note on Centre Pass in Netball. (x) نیٹ بال میں سنٹر پاس پر نوٹ لکھیں۔
- (xi) Write minimum and maximum outer diameter of Discus for women. (xi) خواتین کے لیے تھالی کا کم از کم اور زیادہ سے زیادہ بیرونی قطر لکھیں۔
- (xii) Write about the start of Discus Throw. (xii) تھالی پھینکنے کے آغاز کے بارے میں مختصر لکھیں۔

4. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Write definition of Health. (i) صحت کی تعریف بیان کیجیے۔
- (ii) Write names of any four body systems. (ii) کوئی سی چار جسمانی نظاموں کے نام لکھیں۔
- (iii) Define Health Education. (iii) علمِ اصحت کی تعریف کیجیے۔
- (iv) Write in short the structure of Human Heart. (iv) انسانی دل کی ساخت مختصر تحریر کیجیے۔
- (v) What is meant by Expiration? (v) برآمد نفس سے کیا مراد ہے؟
- (vi) What is meant by Good Posture? (vi) درست قامت سے کیا مراد ہے؟
- (vii) Write two causes of Kyphosis. (vii) گول کمر کی دو وجوہات لکھیں۔
- (viii) What is meant by First Aid? (viii) ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟
- (ix) What is meant by Simple Fracture? (ix) سادہ شکستگی سے کیا مراد ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: - Attempt any three questions.

24 = 8 x 3

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

5. Write down importance of Recreation in detail. (5) تفریح کی اہمیت تفصیل سے بیان کیجیے۔
6. Draw a sketch of Volleyball Court with its all measurement. (6) والی بال کورٹ کا خاکہ کھینچ کر پیش کریں۔ نیز سروں کے چار فاول لکھیں۔
7. Write the rules of Shot Put. (7) گول پھینکنے کے قوانین تحریر کیجیے۔
8. Write down respiratory system in detail. (8) نظامِ تنفس کو تفصیل سے تحریر کیجیے۔
9. Write down the causes and remedial exercises of the following Postural defects:- (9) درج ذیل کی قدامتی نقائص کی وجوہات اور اصلاحی ورزشیں تحریر کیجیے۔
- (i) Flat foot (ii) Kyphosis (i) گول کمر (ii) پچھلے پاؤں

SECTION-III حصہ سوم

10. NOTE: - Attempt any three parts.

15 = 5 x 3

10۔ (پر پینیکل حصہ) کوئی سے تین اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (A) Write two exercises of Arms. (A) بازوؤں کی دو ورزشیں تحریر کیجیے۔
- (B) Write the technique of backward roll. (B) اٹلی قلابازی کا طریقہ تحریر کیجیے۔
- (C) Write technique of service in Volleyball. (C) والی بال میں سروں کا طریقہ تحریر کیجیے۔
- (D) Write a technique of Baton change in 4 x 100 m relay race. (D) 4 x 100 میٹر ایک دوڑ میں تبدیلی کا ایک طریقہ تحریر کیجیے۔
- (E) Write the technique of "Step" in Triple Jump. (E) سرجت میں "سٹیپ" کی تکنیک تحریر کیجیے۔

OR یا

Write a method of Discus throwing.

تھالی پھینکنے کا ایک طریقہ تحریر کیجیے۔

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کارڈ پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے مچھرنے کے ذریعے ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ Bubbles پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوال پرچہ پر سوالات ہر مرحلہ نہ کریں۔

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) It is necessary for Physical and Mental Growth:-
(A) High Post اعلیٰ عہدہ (B) Wealth دولت (C) Castles محلات (D) Physical Activities جسمانی سرگرمیاں
- (2) Gymnastics has the status of worship for the:-
(A) Greeks یونانیوں کے لیے (B) Iranians ایرانیوں کے لیے (C) Chinese چینیوں کے لیے (D) Indians ہندوستانوں کے لیے
- (3) The length of Volleyball Court is:-
(A) 16 m میٹر 16 (B) 18 m میٹر 18 (C) 19 m میٹر 19 (D) 9 m میٹر 9
- (4) For throwing the shot put, the turn of players will be decided according to:-
(A) Toss تاس (B) Choice انتخاب (C) Alphabetical حروف تہجی (D) Lottery قرعہ اندازی
- (5) The length of changing zone for Baton in Relay Race:-
(A) 18 m میٹر 18 (B) 22 m میٹر 22 (C) 20 m میٹر 20 (D) 21 m میٹر 21
- (6) The process of breathing is called:-
(A) Lungs مچھپورے (B) Expiration خارج ہونا (C) Inspiration درآنا (D) Diaphragm ڈایافراگم
- (7) The number of bones in human foot is:-
(A) 20 (B) 30 (C) 24 (D) 26
- (8) Athletic Injury means:-
(A) Injury in the game کھیلوں کے دوران چوٹ (B) Disease بیماری (C) Disableness معذوری (D) Anxiety پریشانی
- (9) The length of Antenna in Volleyball is:-
(A) 1.03 m میٹر 1.03 (B) 1.50 m میٹر 1.50 (C) 1.80 m میٹر 1.80 (D) 2.10 m میٹر 2.10
- (10) Suddenly bend of any joint in human body is called:-
(A) Muscle cramp عضلاتی تھکاوٹ (B) Muscle strain عضلاتی کھچاؤ (C) Sprain موچ (D) Muscle soreness جسم کے کسی جوڑے کے اچانک مڑ جانے کے عمل کو کہتے ہیں۔
- (11) Cholera spread by the virus of:-
(A) Rubella روپلا (B) Salmonella typhi سالمونلا ٹائپائی (C) Vibrio Cholera ویبریو کالرا (D) Paramasko پیراماسکو
- (12) The width of lanes of standard track is:-
(A) 1.22 m میٹر 1.22 (B) 1.20 m میٹر 1.20 (C) 1.30 m میٹر 1.30 (D) 1.50 m میٹر 1.50
- (13) The heart beat of an adult human being per minute is:-
(A) 50 بار 50 (B) 60 بار 60 (C) 80 بار 80 (D) 72 بار 72
- (14) The origin of every living things is:-
(A) Blood خون سے (B) Protoplasm مادہ حیات سے (C) Cell خلیہ سے (D) Tissue بافت سے
- (15) The angle of throwing sector for shot pot is:-
(A) 45° (B) 35° (C) 34.92° (D) 40°

(FOR BOYS ONLY)

(صرف طلباء کے لئے)

- (16) The length wise line of football ground is called:-
(A) Side line سائیڈ لائن (B) Touch line ٹچ لائن (C) Back line بیک لائن (D) Goal line گول لائن
- (17) The second stage of triple jump is:-
(A) Jump جمپ (B) Hop ہاپ (C) Step سٹیپ (D) Long Jump لمبی چھلانگ

(FOR GIRLS ONLY)

(صرف طالبات کے لئے)

- (16) The width of Netball Court is:-
(A) 15 m میٹر 15 (B) 15.25 m میٹر 15.25 (C) 18 m میٹر 18 (D) 20 m میٹر 20
- (17) The weight of Discus for women is:-
(A) 2 kg کلو 2 (B) 4 kg کلو 4 (C) 1 kg کلو 1 (D) 3 kg کلو 3